

## سٹی آف برامپٹن کے فوڈ پروسیسنگ کے شعبے کو مسلسل تیسرے سال اول درجہ حاصل ہو گیا ہے

برامپٹن، آن (15 جولائی 2022) – گذشتہ روز سٹی آف برامپٹن کو بزنس فیسیلیٹیز میگزین میں شائع ہونے والی 17 ویں سالانہ میٹرو رینکنگ رپورٹ میں فوڈ پروسیسنگ لیڈرز کے زمرے میں مسلسل تیسرے سال پہلی پوزیشن کی درجہ بندی کے ساتھ اعلیٰ اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ یہ مسلسل تیسرا سال ہے کہ سٹی کو اس درجہ بندی سے نوازا گیا ہے۔

برامپٹن کو خوراک کی پروسیسنگ کے زمرے میں افرادی قوت کی پائپ لائن کو توسیع دینے کے لیے خزاں 2021 میں شروع کیے گئے پائلٹ پروگرام کی بنیاد پر اعلیٰ ترین اعزاز موصول ہوا۔ درجہ بندی کی وجہ بننے والے دیگر عناصر میں ملازمت، توسیعات اور صنعت کے لیے پروگرام شامل ہیں۔ رینکنگ رپورٹ برائے 2021 یہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے: [www.businessfacilities.com](http://www.businessfacilities.com)

شمالی امریکہ کے سب سے بڑے ایگری فوڈ سیکٹرز میں سے ایک، اونٹیریو کے فوڈ کلسٹر کے حصے کے طور پر برامپٹن میں خوراک اور مشروبات کا تیزی سے فروغ پاتا ہوا شعبہ موجود ہے جسے صنعت کی سرکردہ ٹیکنالوجی، اعلیٰ معیار کی مصنوعات اور ایک بھرپور زرعی روایت کی معاونت حاصل ہے۔ برامپٹن کا فوڈ اینڈ بیوریج سیکٹر ایک ون اسٹاپ شاپ کی طرز پر کام کرتا ہے جس میں فوڈ ٹیسٹنگ، پروسیسنگ اور پیکیجنگ کی سہولیات کے علاوہ نقل و حرکت، پیکیجنگ ڈیزائن، شعبہ کے آلات اور ریفریجیشن سٹوریج کی مکمل سہولیات دستیاب ہیں اور یہ سب کچھ شہر کے اندر موجود ہے۔

برامپٹن کے خوراک اور مشروبات کے شعبے کینیڈا کے GDP میں سالانہ \$1.3 بلین کا اضافہ کرتے ہیں۔ خوراک اور مشروبات کی تیاری، پروسیسنگ اور اس سے متعلقہ دیگر معاون صنعتوں میں تقریباً 300 کمپنیوں میں 8,500 لوگ ملازمت کرتے ہیں۔

برامپٹن میں فوڈ اینڈ بیوریج کے شعبے میں ملازمتیں فراہم کرنے والے آجرین میں لوب لاز (Loblaws)، میپل لاج (Maple Lodge) اور اٹال پاستا (Italtasta) کے ہیڈکوارٹرز موجود ہیں۔ علاوہ ازیں، کلیدی نوعیت کے آجرین مثلاً کوکا کولا بائٹنگ اور گو اینڈ گو پریپیئرڈ فوڈز کی سہولت گاہیں بھی برامپٹن میں موجود ہیں۔ یہ تمام کمپنیاں برامپٹن شہر میں موجود شہر کے ٹیلنٹ، بہترین انفراسٹرکچر اور مارکیٹ تک آسان رسائی کے ثمرات سے موزوں حکمت عملی کے ساتھ مستفید ہو رہی ہیں۔

حالیہ طور پر ٹاپس فوڈ لمیٹڈ نے برامپٹن میں موجود اپنی سہولت گاہ میں خوراک کی پیداوار کی گنجائش میں توسیع اور سمندری خوراک کی پروسیسنگ اور جمانے کے نئے آلات کی خریداری اور تنصیب کا اعلان کیا۔ یہ برامپٹن کے علاقے کے اندر 60 نئی نوکریاں پیدا کرنے میں مدد دے گا، مقامی پیداوار کی گنجائش کو دوہرا کرے گا اور مستقبل کی بڑھوتری کی بنیاد ڈالے گا۔

میپل لیف فوڈ نے 2021 میں برامپٹن کمیونٹی میں بڑی سرمایہ کاری کی، جس میں ایک نئی لائین اور آلات کے لیے \$80 ملین کی سرمایہ کاری کی گئی اور 140 گھنٹہ وار نوکریوں اور 54 تنخواہ والی نوکریوں کا اضافہ کیا گیا۔

برامپٹن کے خوراک اور مشروبات کے شعبے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں: [www.investbrampton.ca](http://www.investbrampton.ca)

### اقتباسات

"سٹی آف برامپٹن کو مسلسل تیسرے سال بزنس فیسیلیٹیز میگزین کی جانب سے فوڈ پروسیسنگ لیڈرز کے طور پر پہلی پوزیشن کی درجہ بندی حاصل کرنے پر فخر ہے۔ یہ درجہ بندی ہمارے فوڈ اینڈ بیوریج پروسیسنگ کے کاروبار کے شاندار کام کا ثبوت ہے اور اس ہماری اقتصادی ترقی کی ٹیم کی پذیرائی ہوتی ہے جو ان کو مسلسل معاونت فراہم کرتی رہی ہے۔ انٹسٹری کی بہترین ٹیکنالوجی، اعلیٰ معیاری مصنوعات اور بھرپور زرعی روایات کے ساتھ، برامپٹن یقیناً خوراک اور مشروبات کے شعبے میں ایک صنعتی رہنما ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"بزنس فیسیلیٹیز میگزین کی اینونل میٹرو رینکنگ رپورٹ میں فوڈ پروسیسنگ کے زمرے میں مسلسل تیسرے سال #1 درجہ بندی ہماری وقف اکنامک ڈیولپمنٹ ٹیم اور ساتھ ہی ساتھ صنعت کے تمام کاروباروں اور ان کے کارکنان کی محنت کا ثبوت ہے۔ کاروبار برقرار رکھنے

اور توسیع کرنے پر توجہ کے ساتھ، سٹی برامپٹن میں نئے کاروبار لانے اور خوراک اور مشروبات کے شعبے میں ہمارے زبردست موجودہ کاروباروں کی معاونت کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن میں ہماری ٹیم اپنی کاروباری کمیونٹی - جو ہماری کمیونٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہے - کی ہر ممکن طریقے سے معاونت کرنے کے لیے وقف ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے خوراک اور مشروبات کے شعبے - اور ہماری پر عزم اقتصادی ترقیاتی ٹیم کی کوششوں - کو مسلسل تیسرے سال بھی بزنس فیسیلیٹیز میگزین کی جانب سے نمبر 1 کا درجہ دیا گیا ہے۔"

- پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)